

رببر معظم کا یونیورسٹی کے اساتذہ اور ممتازعلمی شخصیات سے خطاب ۔ 24 /Sep/ 24

بسم□الله الرّحمن الرّحيم

پہلی بات جو سب سے اہم اورہماری خواہش کے مطابق ہے وہ اس جلسہ کا علامتی پہلو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں استاد اور ایک عالم کا جو مقام و منزلت اوراحترام ہے وہ معاشرے کی عام سطح پر منعکس ہو جائے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماہرین، سائنسداں اور استاد عزت وکرامت کا احساس کریں۔ علم کو فروغ دینے کے لئے صاحب علم کا احترام و توقیر اس کی بہترین حوصلہ افزائی ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کےاساتذہ اور علمی و تحقیقاتی مراکز کی ممتاز شخصیات ملکی سطح پر اہم علمی و ممتازشخصیات میں شامل ہیں۔ لہذا ہمارے اس جلسے کا سب سے بنیادی مقصد بھی یہی ہے اور بحمداللہ یہ مقصد اس قسم کے جلسوں سے حاصل ہوجاتا ہے۔ □آپ عزیز بھائیوں اور بہنوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ میں صاحب علم اور علم کا خاص احترام کرتا ہوں اور میرے دل میں ایسے افراد کے لئے بڑی جگہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یورے ملک میں عوام سے لیکر حکام تک سب کے اندر یہی جذبہ نظر آئے اور عمل و رفتار سے بھی عیاں ہو۔ البتہ یہ جذبہ و عمل نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کےساتھ ہی ساتھ اس جلسے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علم و دانش، درس و تدریس، اور تعلیم و تربیت سے متعلق امور کے بارے میں علمی شخصیات ایک کھلی فضا میں اپنے نظریات اور تجاویز پیش کریں۔ یہ بہت ضروری اور اہم چیز ہے۔ اس جلسے میں ہمارے احباب نے جو کچھ بیان کیا وہ میرے لئے بہت معلوماتی اور مفید باتیں تھیں، بعض افراد نے نہایت اہم نکات کی جانب اشارہ کیا جن پر توجہ دی جانی چاہئے۔ یہ نکات ایک کھلی فضا میں اہل علم و دانش اور متعلقہ حکام کے سامنے بیان کئے گئے ہیں اور انشاء اللہ جب یہ باتیں ٹی وی اور ریڈیو پر نشر کی جائیں گی تو عوام تک پہنچیں گی اور لوگ ان استفادہ کریں گے۔ میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی ہے دوستوں کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر یونیورسٹی کے اساتذہ، دانشوروں

میرے ذہن میں ابھی ایک بات ائی ہے دوستوں کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر یونیورسٹی کے اساتذہ، دانشوروں اور محققین کا عام اجلاس ہر سال منعقد کرسکیں اور اجتماع میں اسی طبقے کے افراد تقریریں کریں اور اپنے مد نظر مسائل بیان کریں تو حکومت، پارلیمنٹ، یونیورسٹیوں اور وزارت خانوں کی سطح پر بہت سے امور میں فیصلے کرنے کے عمل میں بڑی مدد ملے گیـ

میں یہاں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔

پہلی بات یہ ہے کہ میں جو باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر مورد توجہ قرار دیا جائے کہ علمی پیشرفت و ترقی ملک کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے۔ ویسے علوم میں بھی درجہ بندی ہے جس کی جانب میں بعد میں اشارہ کروں گا۔

دوسری بات بھی ذہن میں رہے کہ علمی پیشرفت، دوسرے ممالک اور پیشرفتہ تحقیقاتی مراکز سے مدد لینے سے ہی ممکن ہے لیکن علم کا حصول اپنی جگہ اہم ہے لیکن جدید علم اور ٹیکنالوجی کی تخلیق اس سےکہیں زیادہ اہم ہے۔ علم کے سلسلے میں یہی کافی نہیں کہ ہم اپنے ڈبے کو مغرب کے انجن سے ہمیشہ جوڑ ے رکھیں ۔ البتہ اس وابستگی کے نتیجے میں بھی ترقی تو ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیشہ پیچھے پیچھے دوڑنا، ابتکار عمل سے بے بہرہ رہنا اور دائمی ما تحتی اس وابستگی کا لازمہ ہوگی اور یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا



ہمیں علم اور ٹیکنالوجی کی تخلیق و پیداوارکی فکر کرنا چاہئے اس پودے کو اپنے ملک میں اگانا چاہئے۔ علم کے میدان میں انسان جیسے جیسے زینے طے کرتا ہے اگلے زینے پر قدم رکھنے کے لئے تیار ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اس عمل کو اپنے فکری ذخائر اور ثقافتی میراث کے سہارے اندرونی سطح پر شروع کریں اور آگے بڑھائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ یہ علمی پیش رفت خود اعتمادی، کامیابی کی پوری امید اور بھرپور جد و جہد اور محنت کے ساتھ ہونی چاہئے۔ کیونکہ ہمارا نصب العین وہ علمی ترقی ہے جو مقامی بنیادوں اور ہماری اپنی ثقافت پر استوار ہو۔ ہماری ثقافت یعنی اسلام اور ہماری پسندیدہ قومی میراث پر مبنی ہو۔ اسی طرح یہ ترقی ملک کی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہو۔ ہماری علمی پیش قدمی میں ان عناصر کا وجود ضروری ہے۔ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ہمیں اپنے اندر یہ یقین اور خود اعتمادی پیدا کرنا ہوگیہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینا ہوگی کہ جب پیش قدمی شروع ہو گئی تو کامیابی کا امکان بھی بھرپور ہے۔

چوتھی بات یہ کہ اس سلسلے میں سستی اور لاپروائی اور ایکدوسرے پرکام چھوڑنا جائز نہیں ہے ؛ جہاد اور مجاہدانہ انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا، علم کے میدان میں اسی طرح زندگی کےدیگر شعبوں میں بھی جہاد لازمی ہے۔ جہاد کے معنی ہیں مسلسل کوشش اور جد و جہد کرنا، ایک معقول حد تک سختی برداشت کرنا اور بھرپور امید کے ساتھ آگے بڑھنا۔

یہ وہ مفروضے ہیں جن پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرچکے ہیں اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکات ہمارے سائنسدانوں اور علمی میدان کے شہسواروں کے ذہن نشین ہو چکے ہوں گے۔ آج یہاں جن افراد نے تقریریں کیں انہوں نے بھی حالیہ برسوں کی ضرورتوں پر روشنی ڈالی اور ساتھ ہی ان بیانات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ علمی ترقی، علم کی نئی بلندیوں کوسر کرنا، علم و دانش کے میدان میں تخلیقی انداز سے قدم رکھنا وغیرہ ان امور میں ہیں جو علمی طبقے میں با قاعدہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اب ان چیزوں کی بنیاد پر استاد کا کیا کردار ہے؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ استاد کا بہت اہم کردار ہے۔ یونیورسٹیوں میں بھی اور تحقیقاتی مراکز میں بھی استاد کا کردار بہت وسیع ہے۔ اسی طرح انتظامیہ اور حکومتی اداروں کی بھی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ ہم صرف حکومتی اداروں کے سلسلے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری ذمہ داریاں ان کی ہیں اور نہ ہی اساتذہ اور تعلیمی مراکز کے ذمہ داروں سے کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ آپ کو ہی کرنا ہے۔ کیونکہ استاد کے کردار کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح متعلقہ حکومتی اداروں کی اہمیت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں ایک عظیم پروجیکٹ پر کام ہونا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہے علمی ترقی کا، علم کے میدان میں سرفرازی و سربلندی کا۔ اس کی نگرانی اور ضروری وسائل کی فراہمی کی ذمہ داری حکومتی اداروں، وزارت تعلیم، وزارت صحت اور دیگر متعلقہ اداروں کے دوش پر ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پروجیکٹ کو اپنے ہاتھ میں لیں، اس کے لئے منصوبہ بندی کریں، ضروری وسائل فراہم کریں۔ ہمارے جن دوستوں نے ابھی اپنی تقاریر میں کچھ مطالبات رکھے ہیں وہ در حقیقت حکومتی اداروں کی انہی ذمہ داریوں کا حصہ ہیں نے ابھی اپنی تقاریر میں کچھ مطالبات رکھے ہیں وہ در حقیقت حکومتی اداروں کی انہی ذمہ داریوں کا حصہ ہیں نے ابھی اپنی تقاریر میں کچھ مطالبات رکھے ہیں وہ در حقیقت حکومتی اداروں کی انہی ذمہ داریوں کا حصہ ہیں



جبکہ ان کے ساتھ ہی ان کے کچھ اور فرائض بھی ہیں۔ لہذا ہر ادارے کے اپنے فرائض اور اپنا رول ہے۔ اب میں یہاں استاد یا حکومتی اداروں کے رول اور کردار کی وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ یہ بحث بہت طولانی ہو جائے گی لیکن کچھ سفارشات ضرور کرنا چاہوں گا۔

میری ایک سفارش یہ ہے کہ متعلقہ ادارے اور اساتذہ یونیورسٹیوں کے اندر خود اعتمادی کے جذبے کو عام کریں۔ جو نوجوان آپ کے پاس زیر تعلیم و تربیت ہےاس میں خود اعتمادی ہونا چاہئے، قومی خود اعتمادی ہونی چاہئے جس کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہو۔ نہیں بلکہ نوجوانوں کو اپنے قومی عادات و اطوار، قومی وسائل و ذخائر، ثقافتی میراث اور تمدنی وراثت پر بھی مکمل اعتماد ہونا چاہئے۔ اسی کو ہم قومی خود اعتمادی کہتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے ہر نوجوان میں ہونا چاہئے۔ یعنی ہمارا نوجوان جب لب کھولے تو اس کی خود اعتمادی صاف محسوس ہو، کیونکہ نوجوان امیدوں کا مظہر ہے۔ طلبا ء سے بھی میری ملاقات ہونے والی ہے۔ نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنی باتیں بیان کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں کہیں بھی مطلوبہ اہداف تک رسائی کے سلسلے میں شک و شبہ اور نا امیدی کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہئے۔ میں نوجوان کو امید کا مظہر ہونا چاہئے۔ حقائق کا تقاضا یہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ ویسے اس سلسلے میں بہت سے سماجی اور سیاسی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں لیکن کلاس، ورکشاپ اور تجربہ گاہ میں استاد طلبہ پر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ نوجوان کے وجود میں خود اعتمادی اور مستقبل کے بارے میں امید کا جذبہ بھرا ہونا چاہئے۔

میری دوسری سفارش یہ ہے کہ ہم علمی اور سائنسی ضرورتوں اور ترجیحات کا تعین کریں اور تعلیمی منصوبے تیار کرتے وقت ان کا خیال رکھیں، وہ آرٹس کے موضوعات ہوں یا سائنس کے شعبے، اگر بغور جائزہ لیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ کچھ ترجیحات سامنے آ جائیں۔ ان کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ جب ہمارے پاس وسائل محدود ہیں اور ضرورتوں کی فہرست طویل ہے تو اس صورت میں کسی ایسے کام میں سرمایہ کاری مناسب نہیں ہوگی جو ترجیحات میں شامل نہیں ہے ۔ فکری سرمایہ کاری، مالی سرمایہ کاری، وقت اور انسانی صلاحیتوں کی سرمایہ کاری" ان امورکے لئے ترجیحات کا تعین ضروری ہے " تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔

ایک اور مسئلہ طالب علم کے اندر تلاش، تحقیق اور جستجو کے جذبے کو مضبوط کرنا ہے۔ ملک کے تعلیمی نظام میں اصلاح کا موضوع تو ایک اہم اور طولانی موضوع ہے جس پر کئی جلسوں میں بحث ہونی چاہئے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تعلیمی نظام میں اصلاح کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ تغیر اس انداز سے انجام پائے کہ ہمارے طالب علم تحقیق اور علمی گہرائیوں تک جانے میں دلچسپی محسوس کریں۔ ہم اپنے یہاں کی یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں کہ استاد طالب علم کو دو تین سو صفحات زبانی یاد کر لینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ طالب علم کو ایسی باتوں کے مطالعہ کرنے اور رٹ لینے کے لئے کیوں کہا جاتا ہے جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ کس کا کتنا فائدہ اور کتنی افادیت ہے۔ اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ممتاز علمی شخصیات متحد ہو کر بیٹھیں اور ایسا تعلیمی نظام وضع کریں جس میں طالب علم خود سے علمی گہرائیوں میں اتر جانے اور تحقیق کرنے میں دلچسپی لے۔ اس میں دو رائےنہیں کہ ہمارے نوجوان اعلی صلاحیتوں سے سرشار ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں علمی استعداد کی اوسط سطح بہت بلند ہے۔ ہمارے ہاں ایک بحث پرانے، تجربہ کار اور نئے جوان اساتذہ کی بھی ہے۔ یہ مسئلہ اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہئے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں تجربہ کار اساتذہ کی بھی ضرورت ہے اور نئے جوان اساتذہ کی بھیے ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں کہ جو افراد پہلے سے ہیں وہ ایک دائرہ کھینچ لیں اور اس کے اندر کسی نئے فرد کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ علمی اور تعلیمی میدان میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہونا چاہئے۔ نئے اساتذہ کو میدان میں اترنے کا موقع دیا جانا چاہئے۔ اس کے ساتھ ہی یرانے اور تجربہ کار اساتذہ کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہئے۔ یہ اساتذہ نظام کا ذخیرہ ہیں۔ اب ان دونوں قسموں کے اساتذہ کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہئے جن میں ایک تجربہ کار ہے اور برسوں مختلف موضوعات کی تعلیم دینے کا تجربہ رکھتا ہے اور دوسرا نو وارد استاد ہے جس نے حال ہی میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی ہے اور اب یورے



جوش و جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتر جانے کے لئے تیار ہے۔ ان دونوں میں سے کسی بھی ذخیرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں پرانے استاد کے قیمتی تجربات کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس نئے استاد کے جوش و جذبے اور جرئت عمل کی بھی ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی اس انداز سے کی جائے کہ دونوں کی توانائیوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تعلیمی اور تحقیقاتی مراکز کے فروغ پر توجہ دیں تو دونوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اورساتھ ہی تعلیمی دور میں کام کرنے میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ کے لئے کام کے مواقع بھی پیدا کئے جا سکتے ہیں۔ نابغہ افراد کے لئے کشش پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ اذان کا وقت قریب ہے اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں ۔ پیدا کی جا سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس دلنشیں جلسہ کو تشکیل دیا۔ جلسہ میں جو سفارشات پیش کی گئی ہیں انشاء اللہ دفتر کے افراد ان کی درجہ بندی کرکے انہیں متعلقہ اداروں کو سونپ دیں گے۔ جن سفارشات کا تعلق مجھ سے ہوگا انہیں میں دیکھوں گا اور جن سفارشات کا تعلق اجرائی اداروں سے ہوگا انہیں میں دیکھوں گا اور جن سفارشات کا تعلق اجرائی اداروں سے ہوگا انہیں اداروں کے حوالے کردیا جائے گا۔

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته